



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

قُلْ يَاۡۤیُّهَا الْکٰفِرُوْنَ ۝ لَاۤ اَعْبُدُ مَا

آپ کہہ دیجیے کہ اے کافرو نہ میں تمہارے معبودوں کی

تَعْبُدُوْنَ ۝ وَلَاۤ اَنْتُمْ عِبَادُوْنَ مَا

پرستش کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی پرستش

اَعْبُدُوْۤا ۝ وَلَاۤ اَنَا عٰبِدُ مَاۤ اَعْبُدُكُمْ ۝

کرتے ہو اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا

وَلَاۤ اَنْتُمْ عِبَادُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُكُمْ ۝ لَكُمْ

اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرو گے تم کو تمہارا

دِیْنُکُمْ وَّ لِیْ دِیْنِ ۝

بدلہ ملے گا اور مجھ کو میرا بدلہ ملے گا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝

آپ کہہ دیجئے کہ وہ (یعنی) اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے

لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ

اس کے اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر

كُفُوًا أَحَدٌ ۝

کا ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ

آپ کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوقات

مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ عَاسِقٍ إِذَا

کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ

وَقَبٍ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي

رات آجاوے اور گہروں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر

الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا

سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ

حَسَدًا ۝

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

آپ کیسے کہ میں آدمیوں کے مالک آدمیوں کے

النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ

بادشاہ آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے

الَّذِي هُوَ الَّذِي يُسَوِّدُ الْوَجْوهَ

پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے

يُؤَسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ

دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے خواہ

الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ

وہ جتن ہو یا آدمی